



## سوال

(59) نبی کوئی شرعی حکم اپنی رائے سے نہیں دیتا

## جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

جب نبی کریم ﷺ نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا۔ کہ جاؤ لوگوں میں اعلان کر دو کہ جس شخص نے لالہ الا اللہ کہا جنت میں داخل ہو گیا۔ تو بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کہنے کے آپ ﷺ نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کو منع کر دیا۔ اب سائل کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے اپنی رائے سے جو حکم دیا تھا یا وحی الہی کے ذریعہ سے؟

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

جواب۔ نبی کوئی شرعی حکم اپنی رائے سے نہیں دیتا۔ یہ حکم بھی وحی الہی سے تھا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے **وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ ۝۳ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۗ ۝۴** سورة النجم

”وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے دینی امور میں جو بھی کہتے ہیں سب اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے۔“

هذا ما عندي والله أعلم بالصواب

## فتاویٰ ثنائیہ امر تسری

جلد 01 ص 197

محدث فتویٰ